



”یہ ایک پتھر ہے، جو ستر سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا اور وہ لگاتار دوزخ میں گر رہا تھا اب جاکر اس کی تہ تک پہنچا“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے کہ اچانک کچھ گرنے کی آواز سنائی دی چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟“ ہم نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ ایک پتھر ہے، جو ستر سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا اور وہ لگاتار دوزخ میں گر رہا تھا اب جاکر اس کی تہ تک پہنچا“

[صحیح] [رواہ مسلم]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک خوف ناک آواز سنی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چیز اوپر سے نیچے گری ہو چنانچہ اپنے پاس موجود صحابہ سے اس آواز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو بہتر معلوم ہے لہذا آپ ﷺ نے ان سے کہا: جو آواز تم نے سنی، داصل وہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے، جو ستر سال پہلے جہنم کے کنارے سے اس کے اندر ڈالا گیا تھا اور وہ اب جاکر اس کی تہ تک پہنچا ہے، جس کی آواز تم کو سنائی دی ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3370>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

